

# شراب نوشی اہل مغرب کی نظر میں

دنیا جانتی ہے کہ شراب نوشی مہلک مرض ہے۔ یہ مرض اگر کسی فرد واحد کو لاحق تو وہ نہ صرف اپنا جینا حرام کر لیتا ہے۔ بلکہ اگر اس کے ذمہ کسی کنبے کا بوجھ ہو تو وہ کنبہ آلام و مصائب کا حکار بن جاتا ہے۔ اسی لئے قرآن نے فرمایا کہ شراب نہ پیو کیونکہ اس میں فائدے کے مقابلے میں نقصانات زیادہ ہیں۔ قرآن حکیم کے اسی حکم کی تفریح کرتے ہوئے ہمارے آقا و مولا ﷺ نے فرمایا کہ جو چیز نشا آور ہے۔ وہ تھوڑی بھی حرام

اسے چھوڑنا ناممکن نہ ہو۔ چنانچہ لوگوں نے شراب کو چوری چھپے بنانا، بیچنا اور پینا شروع کر دیا اور اس حد تک شروع کر دیا کہ قانون سازی یہ بات سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر قوم دستور کی ایک شق کا اس طرح مذاق اڑا رہی ہے تو ڈر ہے کہ کہیں یہ قوم من حیث القوم قانون شکن نہ بن جائے۔ چنانچہ یہ جانتے ہوئے کہ یہ چیز نقصان دہ ہے انفرادی لحاظ سے بھی اور قومی لحاظ سے بھی، انہیں دستور میں ترمیم کر کے اس ام النجاشٹ کو

ڈاکٹر ولیم کا کہنا ہے کہ شراب کے فوائد کے متعلق چاہئے جتنے بھی بلند بانگ دعوے کئے جائیں کہ اس سے بھوک بڑھتی ہے اور اعصاب کو آرام ملتا ہے یا تھوڑی شراب کئی بیماریوں کیلئے فائدہ مند ہے حقیقت یہ ہے کہ بالکل بے کار چیز ہے۔ یہاں تک کہ اگر ایک شخص روزانہ ایک یا دو جام پیتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو جاتی کے گھڑے کی طرف لے جا رہا ہے۔ کیونکہ رفتہ رفتہ انسان

شراب کے استعمال کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ آگے چل کر وہ لگتا ہے کہ ہر شخص کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہئے کہ اس ملک (امریکہ) میں شراب نوشی کا طوفان آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے۔ اور یہ عادت وہاں کی صورت اختیار کر رہی ہے۔ ہمارے ہاں کا مغرب زدہ ذہن یہ سمجھتا ہے کہ شراب نوشی تہذیب کی نشانی ہے۔ دیکھئے مغرب خود شراب کے متعلق کیا کہہ رہا ہے۔ امریکہ کی ہس فیصد آبادی عادی شراب نوش ہے اور پانچ فیصد آبادی شراب تو بیعتی ہے لیکن عادی نہیں ہے۔

جائز قرار دینا پڑا۔ ڈاکٹر ولیم شیون ایم ڈی ہیں جو امریکہ میں طب کی سب سے بڑی ڈگری ہے۔ وہ چالیس سال سے یہ پیشہ اختیار کئے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں میں جو کچھ کہتا ہوں وہ اس تجربے کا پتہ ہے۔ ہر عرصہ چالیس سال سے ہزاروں شراب خور مریضوں کو دیکھنے کے بعد مجھے حاصل ہوا ہے۔ ان کے مریضوں کی اکثریت کھاتے پیتے لوگوں کی ہے۔ ان میں انجینئر، پروفیسر، بینکوں کے صدر اور خوشحال بیویاں شامل ہیں۔

۱۹۶۳ میں دس سے گیارہ ارب ڈالر (تقریباً پچیس ارب روپیہ) صرف شراب خوردی پر خرچ ہو رہا ہے اور صرف نیویارک کی ریاست میں ہر سال تیس ہزار شراب خوروں کا اضافہ ہو رہا ہے۔

نہیں کر سکتے ہیں کہ کس نقطے پر پہنچ کر انسان اسے پینے سے بدست ہو جاتا ہے۔ اسلام نے یہ بات عرصہ سو برس پہلے بتادی۔ لیکن مغرب جلتی نہیں ہے منہ سے کافر لگی ہوئی کے صداق اسے برا تو کہتا ہے لیکن چھوڑ نہیں سکتا۔

امریکہ کے دستور میں یہ بات درج تھی کہ شراب پانا، بیچنا یا تدارک کرنا زروئے دستور غیر قانونی ہے۔ لیکن شراب نوش قوم کیلئے

حکومت کے قائم کردہ نیویارک مورلینڈ کمیشن کا کہنا ہے کہ امریکی قوم کا ۱۹۶۳ء میں دس سے گیارہ ارب ڈالر (تقریباً پچھن ارب روپیہ) صرف شراب خوری پر خرچ ہو رہا ہے اور صرف نیویارک کی ریاست میں ہر سال بیس ہزار شراب خوروں کا اضافہ ہو رہا ہے۔

ہر چار شراب خوروں میں سے تین کا انجام یہ ہوتا ہے کہ ان کی گھریلو زندگی تباہ ہو جاتی ہے وہ کام کرنے کے اہل نہیں رہتے اور بعض اوقات وہ اپنے رشتہ داروں کی زندگی کو بھی تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ صرف خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں۔ شراب خوری کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو دھوکا دیتے رہتے ہیں اور اپنی بربادیوں کی ذمہ داری وہ دوسروں پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اگر شراب نوشی کی عادت پرانی ہو جائے تو اکثر اوقات ان کی موت حادثات، مختلف بیماریوں اور خودکشی کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ پھر یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ ان حقائق سے سبق حاصل کرنے کی بجائے لوگ وہاں کی صورت میں اس لعنت میں گرفتار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہی خاوند سے یہ عادت لے لیتی ہے اور اسی طرح بچے بڑوں کی دیکھا دیکھی شراب پینا شروع کر دیتے ہیں تو کمالک کی یہ عادت اپنا لیتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ شیطانی پکر چلا چلا جاتا ہے۔ پھر مصیبت یہ ہے کہ شراب خوری پر کسی قسم کی کوئی معاشرتی پابندی نہیں اور ایک بلا نوش بھی معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کیونکہ معاشرے کے متعدد افراد شراب نوش ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک عام شرابی کسی قسم کی قانونی معاشرتی پابندی رکاوٹ کی عدم موجودگی میں اس حد تک عادی ہو جاتا ہے کہ وہ شراب کا قلام بھی کر رہ جاتا ہے۔

اصحابی سکون حاصل کرنے کے جوتی

میں لوگ شراب پیتے ہیں۔ حالانکہ وہ یہ حقیقت بھول جاتے ہیں کہ نشہ اترنے کے بعد حقائق اور سنگین صورت اختیار کر کے ان کے سامنے آکھڑے ہوتے ہیں۔ فرد پھر شراب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور اسی طرح اپنے آپ کو تباہی کے گھڑے میں گرا لیتا ہے۔

اسی طرح کھانا کھانے کے بعد شراب نوشی کی جاتی ہے۔ تھکاوٹ دور کرنے کیلئے بھی

تھوڑی شراب پینے والا آہستہ آہستہ عادی شراب نوش بن جاتا ہے۔ اور اس وقت تک وہ جسمانی اور ذہنی طور پر مختلف عارضوں میں مبتلا ہو چکا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ کا شراب نوش ہمیشہ کا شراب نوش بن جاتا ہے۔ ایک شراب نوش میں سات قسم کی باتیں پائی جاتی ہیں:

ہمیشہ کی پریشانی، اداسی کے دورے، جذباتیت، نفرت جو ذرا سی بات پر بھڑک اٹھتی

عادی شراب خور شراب کے نشہ سے اداسی، محرومی، خود فریبی، نفرت اور احساس جرم کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی خودی کو کست دیتا ہے اور اپنی آن کو قائم کرنے کیلئے جھوٹ اور فریب کا سہارا لینے کی کوشش کرتا ہے۔

ہے، معاشرتی نا کامیوں کی طویل فہرست، احساس تنہائی، محرومی، ذات کا احساس، دوسروں کے ساتھ کشیدہ تعلقات۔

ڈاکٹر ولیم علاج کے طور پر یہ بتاتے ہیں کہ اگر شراب سے پیچھا چھڑانا ہے تو شرابی کو چاہئے کہ کام کرنے کی عادت ڈالے، کافی آرام کرے، ورزش کرے، مختلف کھیلیں کھیلے، اگر شراب پینے کو دل چاہے تو اس کی بجائے لمبی سیر کرنا چاہئے اور اگر زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو تو یہ مقصد پیدا کر لے۔

اگر ایک دفعہ شراب شروع کر دی تو کبھی لیں کہ اس سے پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہے۔ یہ انکار ایک مغربی ڈاکٹر کے ہیں۔ جن کے ہاں شراب پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ڈاکٹر ولیم نے کہیں نہیں کہا کہ شراب نہ پیچے سے جان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ بلکہ وہ شراب کو چھوڑنے کی تدابیر بھی بتاتا ہے۔ ہماری کبھی نہیں آتا کہ

شراب کے جام لٹھکائے جاتے ہیں۔ پارٹیوں میں شراب چلتی ہے۔ جنسی تعلقات کیلئے شراب لازم، بوریٹ اور پریشانی کو دور کرنے کیلئے شراب ضروری۔

شراب نوش عورتیں گھریلو ذمہ داریوں کو بطریق احسن پورا کرنے کی اہلیت سے محروم ہو جاتی ہے۔ شیرلی اور بیٹر سے شروع کرتی ہیں اور آخر کار بر اعظمی اور وہسکی پینا شروع کر دیتی ہیں۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ گھریلو زندگی میں سے سکون محبت، اخلاص، قربانی، ہر چیز رخصت ہو جاتی ہے۔

عادی شراب خور شراب کے نشہ سے اداسی، محرومی، خود فریبی، نفرت اور احساس جرم کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی خودی کو کھودتا ہے اور اپنی آن کو قائم رکھنے کیلئے جھوٹ اور فریب کا سہارا لینے کی کوشش کرتا ہے۔

شراب نوشی کا کوئی علاج نہیں ہے۔